

کل نمبر: 10

ٹیسٹ اسلامیات (سوم)

وقت: 10 منٹ

چھٹا مہینا، چوتھا ہفتہ، پہلا دن

سلیبس: مشق سوال نمبر 1

سوال: درست جواب کا انتخاب کریں۔

(2.5×4=10)

(i) کون سی عبادت صحت و تندرستی کے لیے زیادہ اہم ہے؟

(ا)	زکوٰۃ دینا	(ب)	صدقہ کرنا	(ج)	روزہ رکھنا	(د)	تلاوت کرنا
-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------

(ii) موبائل اور ٹیلی وژن کے استعمال سے ہوتا ہے:

(ا)	صحت کا نقصان	(ب)	ذہنی سکون	(ج)	جسمانی آرام	(د)	صحت کا فائدہ
-----	--------------	-----	-----------	-----	-------------	-----	--------------

(iii) منہ کی صفائی کے لیے آپ تَوَارِثُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعمال فرماتے تھے:

(ا)	منجن	(ب)	مسواک	(ج)	برش	(د)	درخت کی چھال
-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	--------------

(iv) دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا:

(ا)	فرض ہے	(ب)	واجب ہے	(ج)	سنت ہے	(د)	مستحب ہے
-----	--------	-----	---------	-----	--------	-----	----------

---



---



---



---



---



---



---



---

کل نمبر: 10

ٹیسٹ اسلامیات (سوم)

وقت: 10 منٹ

چھٹا مہینا، چوتھا ہفتہ، پہلا دن

سلیبس: مشق سوال نمبر 1

سوال: درست جواب کا انتخاب کریں۔

(2.5×4=10)

(i) کون سی عبادت صحت و تندرستی کے لیے زیادہ اہم ہے؟

(ا)	زکوٰۃ دینا	(ب)	صدقہ کرنا	(ج)	روزہ رکھنا	(د)	تلاوت کرنا
-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------

(ii) موبائل اور ٹیلی وژن کے استعمال سے ہوتا ہے:

(ا)	صحت کا نقصان	(ب)	ذہنی سکون	(ج)	جسمانی آرام	(د)	صحت کا فائدہ
-----	--------------	-----	-----------	-----	-------------	-----	--------------

(iii) منہ کی صفائی کے لیے آپ تَوَارِثُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعمال فرماتے تھے:

(ا)	منجن	(ب)	مسواک	(ج)	برش	(د)	درخت کی چھال
-----	------	-----	-------	-----	-----	-----	--------------

(iv) دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا:

(ا)	فرض ہے	(ب)	واجب ہے	(ج)	سنت ہے	(د)	مستحب ہے
-----	--------	-----	---------	-----	--------	-----	----------

---



---



---



---



---



---



---



---